



سوال

(331) بچے کی پیدائش پر ایک بیوی کو تحفہ دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کے پاس دو بیویاں ہیں، ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ جب بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نفاس کے بعد خاوند اسے بطور تحفہ کچھ دیتا ہے تو کیا جب ان میں سے کسی ایک کے ہاں بچہ پیدا ہو تو دونوں کو تحفہ دینا لازم ہے یا کہ صرف بچہ جننے والی کو ہی دیا جائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اصل تو یہی ہے کہ جب ایک بچہ جنے تو دوسری کو تحفہ دینا لازم نہیں کیونکہ جب اس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا تو اسے بھی تحفہ دیا جائے گا اور اس وقت دوسری کو نہیں ملے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تحفہ دینے میں برابری کرنا لازم ہے۔ وہ اس طرح کہ جس نے بچہ جنا ہے اگر اسے ایک سو ریاں دیئے ہیں تو دوسری کو بھی ولادت کے وقت ایک سو ریاں ہی دیئے جائیں۔ لیکن جب مشکلات کا خدشہ ہو اور مرد دیکھے کہ دونوں کو تحفہ دینے سے ہی ان مشکلات سے نجات حاصل ہو سکتی ہے تو پھر وہ دونوں کو ہی تحفہ دے دے، یہ یقیناً بہتر بھی ہوگا اور اس میں تالیف قلب بھی ہے۔ (واللہ اعلم) (شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ)

صدما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 414

محدث فتویٰ